

## رابطے کی معلومات

دلچسپی یا مزید معلومات کیلئے، براہ کرم ہم سے بلاجھک رابطہ کریں:

ڈاک : Birmingham Mind

Every Step of the Way

Office Suite 5, 1<sup>st</sup> Floor, Alma House

Newtown Shopping Centre, Aston

Birmingham B19 2SS

ٹیلیفون: 01213591151

ای میل: ESOW@birminghammind.org


ہمیں Facebook پر لائک کریں:

@ ExpertsByExperienceBirmingham

www.changingfuturesbham.co.uk



## ESOW فلو چارٹ



## ایوری اسٹیپ آف دی وے

متعدد اور پیچیدہ ضروریات والے لوگوں کے لیے اعانت کی فراہمی...

بے گھری،  
نشے کی لت،  
جرم کا دوبارہ ارتکاب،  
دماغی صحت۔

ایوری اسٹیپ آف دی وے ایک نئی سہولت ہے جس کا مقصد مواقع اور تربیت تک رسائی کے لیے تجربے پر مبنی ماہرین کو سہولت بہم پہنچانا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا آپ ایوری اسٹیپ آف دی وے سہولت کے لیے اہل ہیں آگے پڑھیں...

## برمنگھم مائنڈ کا مقصد

"ہم اعلیٰ معیاری خدمات فراہم کریں گے جس کا دائرہ ذہنی بہبود اور صحت کے فروغ سے لے کر صحتیابی پر مبنی خصوصی کوششوں میں تعاون کرنے تک ہے۔ ہم اس بدنامی کو چیلنج کریں گے جو ذہنی تناؤ کے گرد موجود ہے۔"

رجسٹرڈ چیریٹی نمبر 1003906

کمپنی لمیٹڈ ہائی گارنٹی نمبر. 2024372

## اس میں آپ کے لیے

آپ کو ایک مصروفیت اور ترقی کا کارکن ، آپ کے مقرر کردہ ہدف تک پہنچنے کے لیے ایک ترقیاتی منصوبہ اور مقامی خدمات میں شمولیت اور فرق پیدا کرنے کے کافی زیادہ مواقع ملتے ہیں! اخراجات اور تربیت بھی فراہم کی جاتی ہے۔

## میں دلچسپی رکھتا ہوں ، آگے کیا؟

رابطہ کریں اور ہم آپ کو ایک تعارفی ملاقات میں مدعو کریں گے جہاں آپ مزید معلومات حاصل کرسکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے تو آپ اس میں شامل ہوسکتے ہیں۔



the centre for voluntary action

LOTTERY FUNDED

معلومات اور مواصلت سے متعلق کارکنان

ملازم عملہ جو ایوری اسٹیپ آف دی وے کے لیے مواصلاتی منصوبہ میں بیان کردہ سرگرمیاں تیار اور ان کا نظم و نسق کرتا ہے اور جسے مذکورہ بالا متعدد ضروریات میں سے کم از کم دو کا عملی تجربہ ہے۔

## برمنگھم چینجنگ فیوچرز ٹوگیدر — ESOW

ہمارے صارف کی شمولیت اور مشغولیت کا نمائندہ پروگرام۔ یہ ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعہ ہم متعدد ضروریات والے لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، اور انہیں برمنگھم چینجنگ فیوچرز ٹوگیدر پروجیکٹ (ایک ساتھ مل کر مستقبل بدلنا) میں شمولیت کے اہل بناتے ہیں۔

### متعدد ضروریات کیا ہیں

متعدد ضروریات سے ہماری کیا مراد ہے؟

بے گھری، نشے کی لت، جرم کا دوبارہ ارتکاب، ذہنی صحت۔

### تجربے پر مبنی ماہرین

ایسے لوگ جو متعدد ضروریات کا سامنا کر رہے ہیں یا کرچکے ہیں، جن میں سے کم از کم ایک گزشتہ 5 سالوں میں واقع ہوا ہو۔ شناخت شدہ ضروریات ذہنی صحت، منشیات کی لت، جرائم کا دوبارہ ارتکاب، اور بے گھری ہیں۔

### شمولیت کے علمبر دار

اضافی ذمہ داریوں والے تجربے پر مبنی ماہرین جو دوسرے تجربے پر مبنی ماہرین کو شامل کرنے کی ذمہ داری انجام دیتے ہیں۔

## مطلوبہ عہد بستگی؟

ہم صرف یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آیا آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں! ہم ہر 4 ہفتوں پر گروپ ملاقاتوں کا انعقاد کرتے ہیں اور ہم ان میں سے جتنا زیادہ ممکن ہو شرکت کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ آپ کو اپنے اہداف پر کام کرنے کے لیے ایک تفویض کردہ مصروفیت اور ترقی کے کارکن کے ساتھ ذاتی حیثیت میں آمنے سامنے وقت فراہم کیا جائے گا۔ اس عمل کی مدد ایک ذاتی ترقیاتی منصوبہ مکمل کر کے اور آپ کو سہولت کا دوبارہ منصوبہ بنانے اور فراہمی میں فعال طور پر اپنا تاثر دینے کا موقع دے کر کیا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ شمولیت اختیار کرنے اور آپ کی آواز سنی جانے کے بہت سارے مواقع دستیاب ہوں گے۔



LOTTERY FUNDED

the centre for voluntary action

## لیڈ ورکرز

لیڈ ورکر اور ہمسر معلم کے معاہدے کے تحت بھرتی ہوئے افراد جو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ذمہ داری لیں گے کہ متعدد ضروریات والے لوگ ایسی خدمات اور اعانت حاصل کرنے کے اہل ہوں جن کی انہیں ایک آسودہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے۔

## ہمسر معلمین

لیڈ ورکرز کو ان کی ذمہ داریوں میں مدد کرنے کے لیے کام کریں گے اور انہیں ایوری اسٹیپ آف دی وے کا تعاون حاصل ہوگا۔ انہیں مذکورہ بالا متعدد ضروریات میں سے کم از کم دو کا عملی تجربہ ہوگا۔